

وَلَقَدْ نَسَرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

قرآن مجید

مسترجعہ
عالیجناب حضرت مولانا محمد علی صاحب
مؤلف
بیان القرآن انگریزی ترجمہ القرآن

۲۷

۱۰۰

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۱﴾
 قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾
 لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿۳۳﴾
 مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿۳۴﴾
 فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۵﴾
 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۶﴾
 وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ
 الْعَذَابَ الْآلِيمَ ﴿۳۷﴾
 وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ
 بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۳۸﴾
 فَتَوَلَّىٰ يُرْكَبُهُ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿۳۹﴾
 فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
 وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۴۰﴾
 وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿۴۱﴾
 مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ الْآلَا
 جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ ﴿۴۲﴾
 وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ تَمَتَّعُوا
 حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۴۳﴾
 فَتَعَتُوا عَنِ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَذَتْهُمْ
 الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۴۴﴾
 فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا

ابراہیم نے کہا، اے رسولو! تمہارا اصل کام کیا ہے؟
 انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
 تاکہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں۔
 جن پر تیرے رکبے ہاں حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے نشان کیے گئے ہیں
 سو ہم نے ان کو جو اس میں یمن تھے نکال دیا۔
 پریم نے اس میں سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کسی کو نہ پایا۔
 اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشان چھوڑا، جو
 دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔
 اور موسیٰ میں (نشان ہے) جب ہم نے اسے فرعون کی
 طرف کھلی سند کے ساتھ بھیجا۔
 سو اس نے اپنی قوت پر سزائی کی اور کہا یہ (جادو گر ہے یا دیوانہ۔
 سو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا پھرنیوں میں
 ڈالا اور وہ قابل ملامت تھا۔
 اور عاد میں (نشان ہے) جب ہم نے ان پر بناہ کرنے والی ہوا بھیجی۔
 وہ کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی جس پر آتی تھی، مگر اُسے چورا
 کر دیتی تھی۔
 اور ثمود میں (نشان ہے) جب انہیں کہا گیا، اب وقت
 تک فائدہ اٹھاؤ۔
 سو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو انہیں
 ہولناک آواز نے آیا اور وہ دیکھ رہے تھے۔
 پس نہ وہ اٹھنے کے قابل رہے اور نہ

وہ بدل لے سکے۔

اور اس سے، پہلے نوح کی قوم میں نشان تھا، بیشک وہ نافرمان لوگ تھے۔

اور آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا اور ہم وسیع قدرت والے ہیں۔

اور زمین کو ہم نے ہی بچھایا، سو ہم کیا خوب تیار کرنے والے ہیں۔ اور ہر چیز سے ہم نے جوڑے پیدا کیے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو

سو اللہ تم کی طرف دوڑو، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں

اور اللہ تم کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔

اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے، کوئی رسول نہیں آیا، مگر انھوں نے کہا جادو گر ہے یا دیوانہ۔

کیا ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ سو ان سے منہ پھیر لے کیونکہ تجھ پر کوئی الزام نہیں

اور نصیحت کرتا رہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔

اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں

میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں چاہتا

كَانُوا مُتَّصِرِينَ ﴿٤٥﴾

وَقَوْمٍ نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْإِلَهْدُونَ ﴿٤٨﴾

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا سَرَاجِينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

فَإِنِّي لَأَنزِلُ إِلَيْكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ط إِنِّي لَأَنزِلُ إِلَيْكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ سُرْسُودٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

آتَوَا صَوَابَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا

ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔

اللہ تمہی ہی رزق دینے والا قوت والا زبردست ہے۔

سو ان کے لیے جو ظلم کرتے ہیں مقرر پیمانہ ہے، جیسے

ان کے ساتھیوں کا مقرر پیمانہ تھا سو وہ مجھ سے جلدی نہ کریں

پس افسوس ان پر جو کا فر ہیں اس دن سے جس کا انھیں

وعدہ دیا جاتا ہے۔

أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿۵۱﴾

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿۵۲﴾

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ

أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۳﴾

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ

الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۵۴﴾

(۵۲) سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ

اِنَّمَا ۲۹

ذِكْرًا ۲۲

اللہ تمہے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

طور گواہ ہے۔

اور لکھی ہوئی کتاب۔

پھیلے ہوئے ورقوں میں۔

اور آباد گھر۔

اور اونچی چھت۔

اور بھرا ہوا دریا

تیرے رب کا عذاب آکر رہے گا۔

اسے کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔

جس دن آسمان جنبش میں ہوگا

اور پہاڑ اڑ جائیں گے۔

تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے افسوس ہے۔

جو دعوت، باتوں میں لگے ہوئے کھیل رہے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ الطُّورِ ﴿۱﴾

وَ كِتَابٍ مَّسْطُورٍ ﴿۲﴾

فِي سَرَقٍ مَّنْشُورٍ ﴿۳﴾

وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴿۴﴾

وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿۵﴾

وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿۶﴾

إِنَّ عَذَابَ سَآءِ لِقَآءِ

مَآلِهِ مِنْ دَآفِعٍ ﴿۷﴾

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿۸﴾

وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿۹﴾

فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۰﴾

الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿۱۱﴾

جس دن دھکے دیکر دوزخ کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔
یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔

تو کیا یہ جادو ہے یا کیا تم دیکھتے نہیں۔

اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ صبر کرو تمہارے لیے
برابر ہے تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے تھے۔

متقی باغوں اور نعمتوں میں ہیں۔

اپنے رب کے فیض پر خوش ہوں گے اور ان کے رب نے
انہیں جلتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچایا۔

خوشگواہی سے کھاؤ اور پیو، بدلہ اس کا جو تم کرتے تھے۔

برابر بچھے ہوئے تختوں پر لیٹے لگائے ہوئے اور ہم انہیں خوبصورت
حوروں کا ساتھی بنا دیں گے۔

اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی
پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور

ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنی
کمانی میں گروہے

اور ہم انہیں پھل اور گوشت جس سے وہ چاہیں،
پئے بہ پئے دیں گے۔

وہ اس میں ایک دوسرے سے وہ پیالہ لیں گے جس میں
نہ لگو ہے اور نہ گناہ

اور ان کے آس پاس ان کے غلام پھرتے ہوں گے گویا
وہ پردے میں رکھے ہوئے موتی ہیں

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ۝١٧

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ ۝١٨

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝١٩

إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ

عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٢٠

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝٢١

فَكَهَيِّنٍ مِّمَّا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَهُمُ

رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝٢٢

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٢٣

مُتَّكِنِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۝٢٤

وَتَرَوُجُهُمْ يَجُورِي عَيْنٍ ۝٢٥

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ

بِإِيمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا

أَلْتَنَّهُمْ مِّنْ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۝٢٦

أَمْرِيٍّ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝٢٧

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ

مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝٢٨

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا

وَلَا تَأْسِيْمٌ ۝٢٩

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ

لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ۝٣٠

اور وہ ایک سرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک سرے سے پوچھیں گے۔
 کہیں گے ہم پہلے اپنے اہل میں ڈرنے والے تھے۔
 سوا اللہ تم نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچالیا۔
 ہم پہلے سے اُسے پکارتے تھے، وہ بڑا احسان کرنے والا
 رحم کرنے والا ہے۔

سو نصیحت کرتا رہ کہ تو اپنے رب کی نعمت سے کاہن نہیں
 اور نہ ہی دیوانہ ہے
 بلکہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے ہم اس کے لیے زمانہ کی گردش
 کا انتظار کرتے ہیں
 کہ، انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے
 والوں میں سے ہوں۔

کیا ان کی عقلیں انہیں یہ حکم دیتی ہیں، بلکہ وہ
 سرکش لوگ ہیں۔

کیا کہتے ہیں یہ جھوٹ بنالیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے
 تو اس جیسی کوئی بات لائیں، اگر
 سچے ہیں

کیا یہ بنیہ کسی کے پیدا کرنے کے پیدا ہو گئے ہیں یا
 یہی پیدا کرنے والے ہیں

یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ
 یقین نہیں کرتے۔

کیا ان کے پاس تیسرے رب کے خزانے ہیں

وَاقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۵۱﴾
 قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿۵۲﴾
 فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَدَّابَ السَّمُورِ ﴿۵۳﴾
 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ
 ۱۰۰ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿۵۴﴾

فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
 بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿۵۵﴾
 أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ بِهِ
 رَبَّيْبَ الْمُنُونِ ﴿۵۶﴾
 قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
 الْمُنْتَرِبِينَ ﴿۵۷﴾

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ
 هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۵۸﴾

أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهَا بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۹﴾
 فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا
 صَادِقِينَ ﴿۶۰﴾

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ
 الْخَالِقُونَ ﴿۶۱﴾

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۲﴾

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ

الْمُضَيِّطُونَ ۝۷

یا یہ مسلط ہیں

کیا ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے جس سے سُن لیتے ہیں تو چاہیئے کہ ان کا سننے والا کوئی کھلی دیل لائے کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمھارے لیے بیٹے ہیں۔ کیا تو ان سے اجر مانگتا ہے تو یہ چپٹی کے بوجھ میں بے ہوئے ہیں۔

أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَذَلِكُنَّ الْمُسْتَمِعَاتُ ۝۷
أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ۝۸
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۝۹

کیا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں

کیا یہ کوئی داؤ کرنا چاہتے ہیں، تو جو کافر ہیں وہی داؤ کے نیچے آتے ہیں

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝۱۰
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ۝۱۱

کیا ان کے لیے سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے، اللہ تم اس سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝۱۲

اور اگر یہ آسمان سے (عذاب کا) کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں، کہیں گے تہ بتر بادل ہیں

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ۝۱۳

سوا نہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو ملیں، جس میں ہلاک کیے جائیں گے

فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۝۱۴

جس دن ان کا داؤ اُن کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں مدد دی جائے گی۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝۱۵

اور ان کے لیے جو ظالم ہیں اس کے سوائے ایک اور عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۶

اور اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کر، کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر جب تو اٹھے۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝۱۷

۶ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿۶﴾ اور رات کے کسی حصے میں بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی۔

سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ (۵۳) اِنْفَاذٌ ۶۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾
 وَ النَّجْمِ اِذَا هَوٰی ﴿۲﴾
 مَا ضَلَّ صٰحِبُكُمْ وَمَا غَوٰی ﴿۳﴾
 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ﴿۴﴾
 اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی ﴿۵﴾
 عَلَّمَهُ شَدِیْدُ الْقَوٰی ﴿۶﴾
 ذُو مِرَّةٍ ط فَاَسْتَوٰی ﴿۷﴾
 وَ هُوَ بِالْاَرْنُتِ الْاَعْلٰی ﴿۸﴾
 ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰی ﴿۹﴾
 فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی ﴿۱۰﴾
 فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی ﴿۱۱﴾
 مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا سَاى ﴿۱۲﴾
 اَفْتَشِرُوْنَہٗ عَلٰی مَا یَرٰی ﴿۱۳﴾
 وَ لَقَدْ سَاَہٗ نَزَّلَتْ اٰخْرٰی ﴿۱۴﴾
 عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ﴿۱۵﴾
 عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوٰی ﴿۱۶﴾
 اِذْ یَعْنٰی السِّدْرَةَ مَا یَعْنٰی ﴿۱۷﴾
 مَا سَاَغَرَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی ﴿۱۸﴾

اللہ نے ہمارے ہمارے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
 ستارہ گواہ ہے جب وہ ڈوبتا ہے
 تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا اور نہ وہ بہکا ہے
 اور نہ خواہش نفس سے بولتا ہے۔
 یہ صرف وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے
 اسے مضبوط قوتوں والے نے سکھایا ہے
 حکمت والے نے — سو وہ اعتدال پر قائم ہوا
 اور وہ بلند انتہائی مقامات پر ہے
 پھر قریب ہوا اور بہت قریب ہوا
 سو وہ دو کمانوں کا قطر ہوا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قریب
 سو اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو وحی کی
 جو اس نے دیکھا وہ دل نے جھوٹ نہیں کہا۔
 تو کیا تم اس سے اس پر جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے۔
 اور اس نے اسے ایک اور نزل کے وقت بھی دیکھا
 سدرۃ المنتہی کے پاس
 اسی کے پاس جنت ہے جو اصل ٹھکانا ہے۔
 جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا
 آنکھ پھری نہیں اور نہ حد سے بڑھی

اس نے اپنے رب کے بڑے بڑے نشانات دیکھے
تو کیا تم نے لات اور عزریٰ کو دیکھا۔

اور منات تیسرے اور کو

کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں۔

یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے

یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں

نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تم نے ان کے لیے کوئی سند

نہیں اتاری، یہ لوگ صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور اس

کی جو ان کے انفس چاہتے ہیں اور ان کے پاس ان کے

رب کی طرف سے ہدایت آچکی ہے۔

کیا انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے۔

تو آخرت اور پہلی زندگی اللہ تم کے اختیار میں ہے۔

اور کتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ

کام نہیں دیتی، مگر اس کے بعد کہ اللہ تم جسے چاہے

اور پسند کرے اجازت دے

وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ

فرشتوں کے نام عورتوں کے رکھتے ہیں

اور انھیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف ظن

کی پیروی کرتے ہیں اور ظن حق کے مقابل کچھ

کام نہیں دیتا۔

سو اس سے منہ پھیر لے جو ہمارے ذکر سے پھر جاتا

لَقَدْ سَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝۱۸

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزْرَىٰ ۝۱۹

وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخْرَىٰ ۝۲۰

الْكُمُ الدَّكْرُ وَكَهْ الْأُنثَىٰ ۝۲۱

تِلْكَ إِذْ أَقْسَمْتُمْ بِيُزْيٰى ۝۲۲

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ

وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ

سُلْطٰىنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا

تَهْوٰى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ

رَبِّهِمُ الْهُدٰى ۝۲۳

أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا كَمٰى ۝۲۴

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولٰى ۝۲۵

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوتِ لَا تُعْجٰى

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ

يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضٰى ۝۲۶

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

لَيْسَتُنَّ الْمَلٰىكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثٰى ۝۲۷

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ

إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْجٰى مِنْ

الْحَقِّ شَيْئًا ۝۲۸

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلٰى عَنْ ذِكْرِنَا

ہے اور سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں چاہتا۔

ان کے علم کا منہا یہی ہے، تیرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے گمراہ ہے اور وہ اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے۔

اور اللہ تم کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو بُرا کرتے ہیں ان کے عمل کا بدلہ دے اور انہیں جو نیکی کرتے ہیں اچھا بدلہ دے۔

وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں سوائے اس کے کہ خیال دل میں گزرے، تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب تمہیں زمین سے پیدا کرتا ہے اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں پٹھے ہوتے ہو، سو اپنے نفسوں کو پاک دھو کر دے وہ اسے خوب جانتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے

کیا تو نے اُسے دیکھا جو پھر گیا۔

اور تھوڑا سا دیا پھر رک گیا

کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔

کیا اسے اس کی خبر نہیں ملی، جو موسیٰؑ کے صحیفوں میں ہے۔

اور ابراہیمؑ کے جس نے دفا دکھلائی

کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

اور کہ انسان کے لیے کچھ نہیں، مگر وہی جو وہ کوشش کرتا ہے

اور کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی

وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا الْعَيْوَةَ الدُّنْيَا ۝

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۝

۝ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى ۝

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۝

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ
وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّسَمَ إِنَّ رَبَّكَ
وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۝ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ

أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ
فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ
۝ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۝

۝ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَتَّبِعُ ۝

وَأَخْطَى قَلِيلًا وَكَذَى ۝

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ۝

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۝

وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَتَّى ۝

أَلَا تَذَرُنَّ آيَاتِي وَآيَاتِ الْأَوْلِيَاءِ ۝

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۝

پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

اور کہ انجہام تیرے رب کی طرف ہی ہے

اور کہ وہی ہنساتا اور رُلاتا ہے۔

اور کہ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے۔

اور کہ وہی دو جوڑے پیدا کرتا ہے، نر

اور مادہ۔

نطفہ سے جب وہ ڈالا جاتا ہے۔

اور کہ اسی پر دوسرا اٹھانا ہے۔

اور کہ وہی دولت دیتا اور وہی پونجی دیتا ہے

اور کہ وہی شعریٰ کا رب ہے

اور کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا۔

اور ثمود کو، سو انھیں باقی نہ چھوڑا۔

اور نوح کی قوم کو اس سے پہلے (ہلاک کیا) کیونکہ وہ

بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے۔

اور تباہ شدہ بستیوں کو دے مارا۔

سو انھیں ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا۔

سو تو اپنے رب کی کن نعمتوں پر جھگڑتا ہے۔

یہ اگلے ڈرانے والوں میں سے ڈرانے والا ہے۔

آنے والی گھڑی آپہنچی

اللہ کے سوائے اسے کوئی دُور کرنے والا نہیں۔

تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو۔

ثُمَّ يُجْزِئُهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلِيَّ ۝۴۱

وَأَنَّ إِلَىٰ سَرِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۝۴۲

وَأَنَّ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۝۴۳

وَأَنَّ هُوَ أَمَاتَ وَآخْيَا ۝۴۴

وَأَنَّ خَلَقَ الرُّوجَيْنِ الذَّكَرَ

وَالْأُنثَىٰ ۝۴۵

مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تَمَنَّىٰ ۝۴۶

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ۝۴۷

وَأَنَّ هُوَ آغْنَىٰ وَآقْنَىٰ ۝۴۸

وَأَنَّ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ۝۴۹

وَأَنَّ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝۵۰

وَتَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ۝۵۱

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلِ الْهَمِّ كَانُوا

هُمْ أَظْلَمَ وَاَطْعَىٰ ۝۵۲

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝۵۳

فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ ۝۵۴

فِي آيِ الْأَعْرَابِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝۵۵

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ ۝۵۶

أَرِنَتْ الْأَرْبَابَ ۝۵۷

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝۵۸

أَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَعَجَّبُونَ ۝۵۹

اور ہنستے ہو اور روتے نہیں۔

اور تم غافل ہو

سوال اللہ تم کے لیے سجدہ کرو اور (اس کی عبادت کرو

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿۱۰﴾

وَأَنْتُمْ سَاهُونَ ﴿۱۱﴾

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿۱۲﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ

سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

اِنشَاءً

رُكُوْعًا ثَلَاثًا

اللہ تم بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔

دو عدے کی گھڑی قریب آگئی اور چاند بھٹ گیا

اور اگر کوئی نشان دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں

زبردست جادو ہے

اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی،

اور ہر کام (رہنے وقت پر) قرار کپڑے والا ہے

اور یقیناً انھیں وہ باتیں پہنچ چکی ہیں، جن میں

تنبیہ ہے۔

کامل دانائی رکی باتیں، مگر ڈرانا کسی کام نہ آیا۔

سو ان کی پروا نہ کر، جس دن بلائے والا ایک سخت چیز

کی طرف بلائے گا۔

ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی قبروں سے نکل پڑیں گے،

گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔

پھارنے والے کی طرف دوڑے جاتے ہوں گے، کافر کہیں

گے یہ تنگی کا دن ہے

ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، سو انہوں نے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنُّجُومُ الْقَمَرُ ﴿۲﴾

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا

سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿۳﴾

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ

أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ﴿۴﴾

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ

مُزْدَجَرٌ ﴿۵﴾

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّذْمُرُ ﴿۶﴾

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى

شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴿۷﴾

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ

الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿۸﴾

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ

هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿۹﴾

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا

ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے اور اسے ڈانٹا گیا۔
 سو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما۔
 پس ہم نے بادل کے دروازے زور سے برستے ہوئے پانی سے کھول دیئے۔
 اور زمین میں چشمتے بہا دیئے تو پانی ایک کام کے لیے جمع ہو گیا
 جس کا اندازہ ہو چکا تھا
 اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی رکشتی، پر سوار کر دیا۔
 اور وہ ہمارے سامنے چلتی تھی، یہ اس شخص کو بدلہ دیا گیا
 جس کا انکار کیا گیا۔

اور ہم نے اسے نشان (کے طور پر) چھوڑا تو کیا کوئی نصیحت قبول کریں والا ہے
 سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا
 اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے،
 تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔
 عادی نے جھٹلایا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا
 کیسا تھا۔

ہم نے ان پر ایک آدھی ایک سخت سخت و آسٹ والے
 دن میں چھلایا۔
 وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی، گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی
 کھجوروں کے تنے ہیں
 سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔
 اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو کیا
 کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

عَبَدْنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ ۙ وَازْدُجِرَ ۙ
 فَدَعَارَبَهُ أَتَىٰ مَعْلُوبٌ فَاَنْتَصِرُ ۙ
 فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ۙ
 وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَفَى الْمَاءُ
 عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۙ

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَّاحِ وَدُسِّرَ ۙ
 تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ
 كَانَ كُفِرَ ۙ

وَلَقَدْ شَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَكِّرٍ ۙ
 فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُذِيرٍ ۙ
 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
 فَهَلْ مِنْ مُّدَكِّرٍ ۙ
 كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي
 وَنُذِيرٍ ۙ

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا
 فِي يَوْمٍ نَّحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۙ
 تَنْزِعُ النَّاسَ أَكَاثِمُ أَعْجَانُ
 رَحْلٍ مُّتَفَعِّرٍ ۙ

فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُذِيرٍ ۙ
 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
 فَهَلْ مِنْ مُّدَكِّرٍ ۙ

شود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔

سو انھوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک انسان کی بچی کریں
تو اس صورت میں ہم گمراہی اور دکھ میں ہونگے

کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر نصیحت اُتری ہے بلکہ وہ
جھوٹا خود پسند ہے۔

کل کو جان لیں گے کہ کون جھوٹا خود پسند ہے
ہم اونٹنی کو اُن کی آزمائش کے طور پر بھیجنے والے ہیں سو
انھیں دیکھتا رہ اور صبر کر۔

اور انھیں خبر دے کہ پانی اُن کے درمیان تقسیم ہوا ہوا ہے
ہر پینے کی باری پر حاضری ہوگی

پس انھوں نے اپنے ساتھی کو پکارا سو اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے مار دیا۔
تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔

ہم نے ان پر ایک ہی آواز بھیجی، سو وہ باڑ لگانے والے کی
روندی ہوئی باڑ کی طرح پھوڑا ہو گئے

اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے تو کیا
کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

لوٹ کی قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔
ہم نے ان پر پتھر برسائے، سوائے لوٹ کے لوگوں کے۔

انھیں ہم نے صبح کے وقت بچالیا۔
(یہ) ہماری طرف سے نعمت (تھی) اسی طرح ہم اسے بدلہ
دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے۔

كَذَّبَتْ شَمُودُ بِالْبُدْهِرِ ۝۳۱

فَقَالُوا آبَشْرًا مِّثًّا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ
إِنَّا إِذَا الْفَيْضُ ضَلَّ وَ سُعْرِ ۝۳۲

ءَ الْفَيْضِ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا
بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ ۝۳۳

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشْرُ ۝۳۴
إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ
فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝۳۵

وَنَدِّعُهُمْ إِنْ الْمَاءَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ
كُلُّ شَرِبٍ مُحْتَضِرٌ ۝۳۶

فَتَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۝۳۷
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۝۳۸

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً
فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝۳۹

وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ ۝۴۰

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالْبُدْهِرِ ۝۴۱
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ

لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۝۴۲
نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي
مَنْ شَكَرَ ۝۴۳

اور اس نے انھیں ہماری گرفت سے ڈرایا تھا، پر انھوں نے
ڈرانے میں جھگڑا کیا۔

اور انھوں نے اس کے مہمانوں کو لے جانا چاہا، پس ہم نے ان
کی آنکھیں بند کر دیں سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔

اور ایک قائم رہنے والے عذاب نے انھیں صبح کے وقت آیا۔
سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔

اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے تو کیا
کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

اور فرعون کے لوگوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔
انھوں نے ہمارے سب نشانوں کو جھٹلایا، سو ہم نے انھیں

(الیساہی) پکڑا (الیساہی) غالب قدرت والے کا پکڑنا رہتا ہے)
کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے صحیفوں میں
بریت (لکھی ہوئی) ہے۔

کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک جمعیت ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔
(یہ) جمعیت شکست کھاٹے گی اور پٹھ پھیر دیں گے۔

بلکہ (موعودہ) گھڑی ان کا وقت مقرر ہے اور وہ گھڑی بہت
مصیبت والی اور بہت تلخ ہے

بیشک مجرم گمراہی اور دکھ میں ہیں۔
جس دن آگ کے اندر اپنے مومنوں کے بل گھسیٹے جائیں گے

دوزخ کا چھو جانا چکھو۔
ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا
بِالْذُّرِّ ۝۳۱

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا
أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ۝۳۲

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ۝۳۳
فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ۝۳۴

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهُلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ ۝۳۵

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝۳۶
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذْنَاهُمْ

أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرًا ۝۳۷
أَكْفَارِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ

لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝۳۸
أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرُونَ ۝۳۹

سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۝۴۰
بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ

أَذَى وَأَمْرٌ ۝۴۱
إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝۴۲

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ
ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝۴۳

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝۴۴

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۝
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ
مُذَكِّرٍ ۝

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝۷
وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ ۝۸
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ۝۹
فِي مَفْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝۱۰

اور ہمارا حکم تو ایک ہی ہے (یوں آجائے گا) جیسے آنکھ کا جھپکنا۔
اور ہم تم حسیوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کیا کوئی نصیحت حاصل
کرنے والا ہے۔

اور ہر ایک بات جو انھوں نے کی ہے صحیفوں کے اندر ہے۔

اور ہر ایک چھوٹی اور بڑی بات، لکھی ہوئی ہے۔

متقی باغوں اور نہراخی میں ہوں گے۔

راستی کے مقام میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ (۵۵) اِنَّا هَا هِيَ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
رحمن نے،

قرآن سکھایا۔

انسان کو پیدا کیا،

اُسے بولنا سکھایا

سورج اور چاند حساب کے نیچے ہیں،

اور بوٹیاں اور درخت سجدے کرتے ہیں

اور آسمان کو بلند کیا اور میزان کو قائم کیا

تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو۔

اور وزن کو انصاف سے قائم کرو اور تول میں کمی

نہ کرو۔

اور زمین کو مخلوق کے لیے رکھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

الرَّحْمٰنُ ۝

عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝

وَاقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

الْمِيزَانَ ۝

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاِنْسَانِ ۝

اس میں پھسل ہے اور گابھوں والی کھجوریں۔

اور ٹھس والا دانہ اور خوشبودار پھول

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے

اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی سُوکھی ہُوٹی مٹی سے پیدا کیا۔

اور پتھوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

اسی نے دو دریا چلائے ہیں جو باہم ملتے ہیں۔

ان دونوں کے درمیان ایک سڑ ہے جس سے آگے نہیں گزر سکتے۔

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

ان دونوں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

اور اسی کی کشتیاں ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح

اٹھی ہوئی ہیں

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

سب جو اس کے اوپر ہیں فنا ہونے والے ہیں۔

اور تیرے رب کی ذات باقی رہتی ہے (جو جلال اور عزت والا ہے)

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

ہر آن وہ ایک شان میں ہے

فِيهَا فَآكِهَةٌ ۖ وَالنَّحْلُ ذَاتُ الْاَلْكَامِ ۝

وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبْنَ ۝

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ۝

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبْنَ ۝

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبْنَ ۝

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۝

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنَ ۝

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبْنَ ۝

يَخْرُجُ مِنْهَا الْوُكُوْدُ وَالْمَرْجَانُ ۝

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبْنَ ۝

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ

كَالاَعْلَامِ ۝

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبْنَ ۝

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

وَ يَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ ۝

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ تُكذِّبْنَ ۝

يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۝

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

ہم تمہاری طرف جلد متوجہ ہوئے لے دونوں گرد ہو
تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگر تمہیں طاقت ہے
کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے بھل جاؤ، تو بھل
جاؤ۔ تم نہیں بھل سکتے، مگر غلبہ کے
ساتھ

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

تم دونوں پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا
تو تم اپنے آپ کو بچا نہ سکو گے
تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

سو جب آسمان پھٹ جائے گا اور سُرخ ہو جائے گا
جیسے سُرخ چمڑا

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

سو آج کے دن نہ انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں
سوال کیا جائے گا اور نہ جن سے

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

مجرم اپنے نشانوں سے پہچانے جائیں گے۔ پھر پیشانی کے
بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

یہ وہ دوزخ ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿٣٦﴾

سَنَقَرُكُمْ لِكُمْ آيَةَ الثَّقَلَيْنِ ﴿٣٧﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿٣٨﴾

يَمْعَشَرَةُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ

أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ فَاَنْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُونَ

إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿٣٩﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿٤٠﴾

يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئٌ مِّنْ نَّسَارَةٍ

وَ نَحَّاسٌ فَلَا تَنْتَصِرِينَ ﴿٤١﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿٤٢﴾

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ

دَرَادَةً كَالذِّهَانِ ﴿٤٣﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿٤٤﴾

فِيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ

إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ﴿٤٥﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿٤٦﴾

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ

بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤٧﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿٤٨﴾

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٩﴾

وہ اس کے اور کھولتے پانی کے درمیان پھریں گے۔

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھرا ہو نہ کیا خوف لکھتا ہے اس کے لیے رحمت ہیں

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

دونوں (بہشت) شاخوں والے ہیں

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

ان دونوں میں دو چپٹے بنتے ہیں۔

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہونگے، جن کے استر

موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں باغوں کے پھل قریب ہیں

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

ان میں لگا ہوں کو نیچی رکھنے والی ہوں گی جنہیں ان سے پہلے

نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ جن نے

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

گویا کہ وہ یا قوت اور مونگکا ہیں۔

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

اور ان سے ادھر دو اور باغ ہیں

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيبٍ اِن ۵۴

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۵۵

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۵۶

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۵۷

ذَوَاتَا اَفْنَانٍ ۵۸

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۵۹

فِيهِمَا عَيْنٌ تَجْرِيْنَ ۶۰

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۶۱

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ تَرَوْنَ ۶۲

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۶۳

مُتَّكِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَاطِنُهَا مِنْ

اِسْتَبْرَقٍ ط وَجَنَّا الْجَنَّتَيْنِ ذٰلِكَ ۶۴

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۶۵

فِيْهِنَّ قُصُرٌ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهِنَّ

اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ۶۶

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۶۷

كَاتِهِنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۶۸

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۶۹

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۷۰

فِي آيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَنَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۷۱

وَمِنْ دُوْنِهَا جَنَّاتٌ ۷۲

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
دونوں بہت سرسبز ہیں۔

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
ان دونوں میں دو چشمے جوش مار رہے ہیں
تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

ان دونوں میں پھل ہے اور کھجور اور انار
تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
ان میں اچھی خوب صورت ہوں گی

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
حوریں جو خیموں میں ٹھیرائی ہوئی ہیں

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
انھیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ جن نے

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

سبز قالینوں اور خوبصورت فرشوں پر بیچھے لگائے
ہوئے ہونگے

تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

تیرے رب کا نام بابرکت ہے، جو جلال اور
عزت والا ہے۔

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾
مُدَاهَمْتَيْنِ ﴿٣٧﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾
فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَيْنِ ﴿٣٩﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾
فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٤١﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٢﴾
فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٤٣﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٤﴾
حُورًا مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٤٥﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٦﴾
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٤٧﴾

فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٨﴾
مُتَكِينِينَ عَلَى سُرَفٍ خُضْرٍ وَ

عَبَقَرِيِّ حِسَانٍ ﴿٤٩﴾
فِي آيِ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾

تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ
وَ الْإِكْرَامِ ﴿٥١﴾

جب ہو جانے والی (بات) ہو جائے گی۔

اس کے ہو جانے میں کوئی جھوٹ نہیں
(وہ کسی کو نیچا کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی رہے)

جب زمین سخت حرکت سے ہلے گی
اور پہاڑ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے

پس وہ اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے۔

اور تم تین قسم ہو گے

سو برکت والے ، برکت والوں کی کیا (اچھی)
حالت ہے

اور بد بختی والے ، بد بختی والوں کی کیا (بری)
حالت ہے

اور آگے بڑھنے والے سب سے آگے ہی ہیں۔

وہی مقرب ہیں

نعمتوں والے باغوں میں۔

ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے۔

اور تھوڑے پھیلوں میں سے

جبڑاؤ تختوں پر

ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے ہوں گے

ان پر ہمیشہ ایک حالت میں رہنے والے (ڑکے پھر رہے ہوں گے۔

آب خورے اور لوٹے اور خالص پینے کا

پیالہ لیے ہوئے

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱

لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝۲

خَافِضَةٌ سَرِيفَةٌ ۝۳

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝۴

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝۵

فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۝۶

وَكَنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝۷

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ

الْمَيْمَنَةِ ۝۸

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ

الْمَشْأَمَةِ ۝۹

وَالسَّيْفُونَ السَّيْفُونَ ۝۱۰

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝۱۱

فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝۱۲

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَئِينَ ۝۱۳

وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝۱۴

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۝۱۵

مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۝۱۶

يُطَوَّفُونَ عَلَيْهِمْ لِيَدَّانٍ مُّخَلَّدُونَ ۝۱۷

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ

مِّنْ مَّعِينٍ ۝۱۸

اس سے انھیں دردِ سر نہ ہوگا اور نہ وہ متوالے ہونگے۔

اور میوہ جیسا وہ پسند کریں۔

اور پرند کا گوشت جس کی انھیں خواہش ہو۔

اور خوبصورت حوریں،

محفوظ رکھے ہوئے موتیوں کی طرح۔

اس کا بدلہ، جو وہ عمل کرتے تھے۔

وہ اس میں کوئی لغوات نہ سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔

مگر ایک ہی بات سلامتی سلامتی۔

اور برکت والے، برکت والوں کی کیا (اچھی)

حالت ہے۔

بیریلوں میں (ہیں) جن کے کانٹے نہیں

اور کیلے تہ تہہ پھیل والے)

اور وسیع سایہ۔

اور بلند سی سے گرتا ہوا پانی

اور بہت پھیل۔

نہ خنقم ہو اور نہ (اس سے) روکے۔

اور بلند فرش۔

ہم نے انھیں ایک نئی پیدائش میں اٹھا کھڑا کیا ہے۔

پس انھیں نوجوان بنایا ہے۔

محبت والیاں ہم عمر

برکت والوں کے لیے۔

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ﴿١٦﴾

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿١٧﴾

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿١٨﴾

وَحُورٍ عِينٍ ﴿١٩﴾

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٠﴾

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِمْ

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٢﴾

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٣﴾ مَا أَصْحَابُ

الْيَمِينِ ﴿٢٤﴾

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٥﴾

وَأَطْلَحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٢٦﴾

وَأَظْلَمٍ مَّمدُودٍ ﴿٢٧﴾

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٢٨﴾

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٢٩﴾

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٠﴾

وَفَرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣١﴾

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٢﴾

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٣﴾

عَرَبًا أَشْرَابًا ﴿٣٤﴾

لِلْأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٥﴾

ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے۔

اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے۔

اور بائیں ہاتھ والے ، بائیں ہاتھ والوں کی کیا
(برمی) حالت ہے۔

تو میں ، اور اُبلتے ہوئے پانی میں۔

اور سیاہ دھوئیں کے سایہ میں

نہ ٹھنڈا اور نہ عزت والا۔

وہ اس سے پہلے آسودہ حال تھے۔

اور بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔

اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور

ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ؟

اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی۔

کہ پہلے اور پچھلے (سب)

یقیناً ایک مقرر دن کے مقرر وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے۔

پھر تم اے گرامہو! جھبٹلانے والو!

ضرور تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے۔

پھر اپنے پیٹوں کو اس سے بھرو گے۔

پھر اس کے اوپر اُبلتا ہوا پانی پیو گے۔

پھر پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔

یہ سزا کے دن اُن کی تمنا ہے۔

ہم نے تم کو پیدا کیا پھر کیوں تم (دوسری پیدائش کو) سچ نہیں مانتے۔

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٦﴾

وَأُخْرَى مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٦٧﴾

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ لَمَّا أَصْحَابُ

الشِّمَالِ ﴿٦٨﴾

فِي سَمُومٍ وَحَيْمٍ ﴿٦٩﴾

وَزَلِيلٍ مِّنْ يَّحْضُومٍ ﴿٧٠﴾

لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٧١﴾

لَا تَهُمُّ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٧٢﴾

وَكَانُوا يُبْصِرُونَ عَلَى الْجَنَّةِ الْعَظِيمِ ﴿٧٣﴾

وَكَانُوا يَقُولُونَ لَآ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا

تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٧٤﴾

أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٧٥﴾

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٧٦﴾

لَجَمْعٌ مِّنْهُ إِلَىٰ مِيْقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٧٧﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الصَّالِتُونَ الْمَكْدِبُونَ ﴿٧٨﴾

لَأَكَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ ﴿٧٩﴾

فَمَا لَكُمْ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٨٠﴾

فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَيْمِ ﴿٨١﴾

فَشْرِبُونَ شَرِبَ الْهَيْمِ ﴿٨٢﴾

هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدَّيْنِ ﴿٨٣﴾

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٨٤﴾

تو کیا تم نے دیکھا جو تم نطفہ ڈالتے ہو۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٦﴾

کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهَا أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٧﴾

ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے اور ہم

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَ مَا

اس سے عاجز نہیں۔

نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٥٨﴾

کہ تمہاری مش بدل کر لائیں اور تمہیں اس صورت میں پیدا

عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ آمَثَالَكُمْ وَ نُنشِئَكُمْ

کریں جو تم نہیں جانتے

فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

اور تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو تو پھر نصیحت کیوں

وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَ لَوْلَا

نہیں پکڑتے۔

تَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

کیا تم نے دیکھا جو تم بوتے ہو

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦١﴾

کیا تم اُسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٢﴾

اگر ہم چاہیں تو اسے پھورا پھورا کر دیں ، تو تم تعجب

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ

کرنے لگو۔

تَفَكَّهُونَ ﴿٦٣﴾

رکھ، ہم پر چٹھی پڑ گئی۔

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٤﴾

بلکہ ہم محسوم ہو گئے۔

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٥﴾

کیا تم نے وہ پانی دیکھا، جو تم پیتے ہو۔

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٦﴾

کیا تم اُسے بادل سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ

والے ہیں

نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٧﴾

اگر ہم چاہتے تو اُسے کھاری بنا دیتے ، تو کیوں

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَ لَوْلَا

تم شکر نہیں کرتے۔

تَشْكُرُونَ ﴿٦٨﴾

کیا تم نے آگ کو دیکھا، جو تم روشن کرتے ہو۔

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٦٩﴾

کیا تم اس کا درخت پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ

الْمُنشُورُونَ ﴿۵۶﴾

کرنے والے ہیں۔

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا وَرَمَاءَ الْيَقِينِ ﴿۵۶﴾

ہم نے اسے نصیحت اور مسافروں کے لیے سامان بنایا
سو اپنے رب عظمت والے کے نام کی تسبیح کر۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۵۷﴾

(ایسا نہیں میں قرآن کے حصوں کے نزول کی قسم کھاتا ہوں

فَلَا أُقْسِمُ بِسَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿۵۸﴾

اور وہ بھاری قسم ہے اگر تم جانو۔

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعَمُونَ عَظِيمٌ ﴿۵۹﴾

یقیناً یہ قرآن نفع پہنچانے والا ہے۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۶۰﴾

محفوظ کتاب میں۔

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿۶۱﴾

سوائے پاک لوگوں کے اسے کوئی نہ چھوتا

لَّا يَسْمَعُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۶۲﴾

جانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۳﴾

تو کیا تم اس کلام کو جھوٹا قرار دیتے ہو۔

أَفِيهِذَ الْاٰحْدِيثِ اَنْتُمْ مُدْهِمُونَ ﴿۶۴﴾

اور (اسے) اپنا حصہ ٹھہراتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو

وَتَجْعَلُونَ رِازِقَكُمْ اَنْتُمْ تُكْذِبُونَ ﴿۶۵﴾

تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب (روح) گلے میں آ پہنچتی ہے۔

فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿۶۶﴾

اور تم اس وقت دکھ رہے ہوتے ہو۔

وَ اَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿۶۷﴾

اور ہم تمھاری نسبت اس سے قریب تر ہیں، لیکن

وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لٰكِنْ

تم نہیں دیکھتے۔

لَا تُبْصِرُونَ ﴿۶۸﴾

تو کیوں اگر تم کسی کے ماتحت نہیں،

فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿۶۹﴾

اسے ٹوٹا نہیں دیتے اگر تم سچے ہو

تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۷۰﴾

پھر اگر وہ مقررہوں میں سے ہے۔

فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۷۱﴾

تو راحت اور رزق اور نعمت کا باغ ہیں۔

فَرَوْحٌ وَ رِيْحَانٌ ﴿۷۲﴾ وَ جَنَّتْ نَعِيْمٌ ﴿۷۳﴾

اور اگر وہ برکت والوں میں سے ہے

وَ اَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۷۴﴾

تو تیرے لیے سلامتی ہے (تو برکت والوں میں سے ہے)

فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۷۵﴾

اور اگر وہ جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے۔

تو کھولتے پانی کی مہمانی ہے۔

اور دوزخ میں جلنا۔

یہ یقینی سچ ہے۔

سواپنے رب عظمت والے کے نام کی تسبیح کر۔

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْفِرِينَ
الصَّالِينَ ﴿٣٧﴾

فَنَزُلُ مِنْ حَيْمِهِ ﴿٣٨﴾

وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٣٩﴾

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٤٠﴾

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٤١﴾

سُورَةُ الْحَدِيدِ مَدَنِيَّةٌ ﴿٥٤﴾

آيَاتُهَا ٢٩

سُورَةُ الْحَدِيدِ ٥٤

اللہ تعالیٰ انہارحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔

اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وہ (سب سے) پہلے اور (سب سے) پیچھے اور (سب سے) ظاہر اور (سب سے) مخفی ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ وقتوں میں پیدا کیا۔ پھر وہ عرش پر قائم ہے۔ وہ

جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے

اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو اور اللہ تم سے جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣﴾

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ

مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
يَعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ
مَا كُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥﴾

آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور اللہ تم کی طرف
سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔

وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہ دن کو رات میں
داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔

اللہ تم اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس سے
خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں (اپنا) نائب بنایا ہے سو جو
لوگ تم میں سے ایمان لاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے
اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ تم پر ایمان نہیں لاتے اور رسول تمہیں
بلانا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور وہ تمہارا عمد
لے چکا ہے، اگر تم مومن ہو

وہی ہے جو اپنے بندے پر کھلی آیتیں اتارتا ہے تاکہ
وہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالے اور اللہ تم
تم پر مہربان رحم کرنے والا ہے۔

اور تمہارا کیا عذر ہے کہ تم اللہ تم کی راہ میں خرچ
نہ کرو، اور اللہ تم ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا ورثہ
ہے۔ تم میں سے وہ برابر نہیں جس نے فتح سے پہلے
خرچ کیا، اور لڑائی کی (اور جس نے پیچھے کیا) میر مرتبہ میں ان
سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور لڑائی کی اور ہر ایک
کے ساتھ اللہ تم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور اللہ تم
اس سے جو تم کرنے ہو خبردار ہے

کون ہے جو اللہ تم کے لیے اچھا مال الگ کرے، تو

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى
اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ ۖ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝
وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ
يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ
مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
الْفَتْحِ وَقَتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً
مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتَلُوا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

وہ اسے اس کے لیے بڑھاتا ہے اور اس کے لیے عزت والا بدلہ ہے۔ جس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھے گا ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں، آج تمھارے لیے خوش خبری ہے، باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ انھیں میں رہو گے۔ یہی بھاری کامیابی ہے

جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمھارے نور سے روشنی لیں کہا جائے گا اپنے پیچھے کو لوٹ جاؤ، اور نور تلاش کرو۔ پس ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اس کا ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر کی طرف رحمت ہے اور اس کے باہر کی جہت سے عذاب ہے

انھیں پکاریں گے کیا ہم تمھارے ساتھ نہیں تھے کہیں گے ہاں لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور تمھیں آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ اللہ تم کو حکم لگایا اور بڑے دھوکے باز نے تمہیں اللہ سے دھوکے میں رکھا سو آج تم سے فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ان سے جنھوں نے کفر کیا، تمھارا ٹھکانا آگ ہے وہی تمھاری رفیق ہے اور وہ بُری جگہ ہے

کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تم کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں اور اس کے

فِيضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ
بِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُمْ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾
يَوْمَ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالْمُنِفِقَاتُ
لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَسِبْ مِنْ
نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ
فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٌ
لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ
مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

يُنَادُونَهُمْ أَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى
وَلَكِن كُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ
وَأَرْبَبْتُمْ وَعَرَّيْتُمْ الْأَمْثَالَ حَتَّى جَاءَ
أَمْرُ اللَّهِ وَعَرَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْعُرُوسُ ﴿١٤﴾
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ النَّارُ
هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

أَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ
قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ

الْحَقُّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ
الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ
مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۱۷﴾

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحِي الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ
وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعْفُ
لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۸﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ
هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ
رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۗ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَإِنَّ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۹﴾

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ
لَهُمْ وَزِينَتُهُمْ وَتَفَاخُرُهُمْ بَيْنَكُمْ وَ
تَكَامُلُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ

عَيْثٍ أَحْبَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۗ
وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَعْفَرَةٌ

ریے) جو حق سے اترا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں
جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر لبا زمانہ گزر گیا تو ان کے
دل سخت ہو گئے۔ اور ان میں سے بہت سے
نافران ہیں

جان لو کہ اللہ تم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرے
گا، ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی
ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔

صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور
جو اللہ تم کے لیے اچھا مال الگ کرتے ہیں، ان کے لیے
بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے

اور جو اللہ تم اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہی اپنے
رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان
کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ

انکار کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں،
وہ دوزخ والے ہیں

جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشہ اور زینت اور
آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک
دوسرے پر کثرت چاہنا ہے، بارش کی مثال

کی طرح جس کا سبزہ کسانوں کو خوش لگتا ہے۔
پھر وہ خشک ہو جاتا ہے تو اسے زرد دیکھتا ہے پھر وہ
چوراچورا ہو جاتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ تم

کی طرف سے مغفرت اور رضا، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے

اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو اور اس جنت کی طرف جس کی فراخی آسمان اور زمین کی فراخی کی طرح ہے وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تمہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ تمہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، بڑے فضل والا ہے۔

کوئی مصیبت زمین میں نہیں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں یہ اللہ تمہ پر آسان ہے تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتا رہا اور نہ اس پر اتراؤ جو تمہیں دیا ہے اور اللہ تمہ کسی متکبر فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو پھیر جاتا ہے، تو اللہ تمہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا۔

ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں شدت کی سختی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے سے بھی ہیں اور تاکہ اللہ تمہ جان لے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی

مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُوْرُ ﴿۲۷﴾

سَابِقُوْا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ۗ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِٗ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۸﴾

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى الْاَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِى كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَبْرَاَهَا ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۲۹﴾ لٰكِيْنَ لَا تَأْسُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿۳۰﴾

الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۳۱﴾

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِىْهِ بَآسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنْ اٰفِعٌ لِلنَّاسِ وَيَعْلَمَ اللّٰهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ

غیب میں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ قوت والا غالب ہے

اور ہم نے ہی نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی نس میں نبوت اور کتاب (کے سلسلہ) کو رکھا، سو ان میں سے کچھ ہدایت پر ہیں اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔

پھر ہم نے ان کے قدموں پر ان کے پیچھے (اور) رسول بھیجے اور (سب سے) پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اُسے انجیل دی — اور ان لوگوں کے دلوں میں جنھوں نے اس کی پیروی کی مہربانی اور رحم ڈالا۔ اور مہربانیت انھوں نے خود نکالی ہم نے اسے ان پر لازم نہیں کیا، مگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے (نکالی) پراس کی وہ نگہداشت نہ کر سکے جو اس کی نگہداشت کا حق تھا۔ سو ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کا اجر دیا۔

اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمھیں اپنی رحمت کے دو حصے دے اور تمھارے لیے نور پیدا کر دے جس سے تم چلو اور تمھاری مغفرت کرے اور اللہ تمھیں مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے

تاکہ ابن کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ (مسلمان) اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے۔ اور فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے

بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٦﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٧﴾
ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۗ وَرَهَابَئِيلَةَ ۗ ابْتَدَعُوهُمَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۗ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٨﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٩﴾

رِعَالًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَقْيَدُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٦٠﴾